

رمضان میں عورت کے پیریڈز دن وقت ختم ہوئے کیا وہ روزہ رکھے؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر رمضان میں کسی عورت کا کے پیریڈز دن میں ظہر کے وقت ختم ہوا تو کیا اس پر اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔

سائلہ: ایک بہن - شیفلڈ (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

ایسی عورت اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اسے اس دن کا روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے رات کو طلوع فجر سے پہلے نہا کر تھوڑا سا وقت مل جائے۔ جبکہ اس کے پیریڈز دس سے کم دنوں میں ختم ہوئے ہوں اور اگر پورے دس دن اور راتیں گزرنے پر طلوع فجر سے پہلے پیریڈز ختم ہوئے ہوں تو روزہ رکھے گی اگرچہ نہانے کا وقت نہ ہو۔

جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے۔

وَلَوْ طَهَّرَتْ لَيْلًا صَامَتْ الْعِدَّةَ إِنْ كَانَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا عَشْرَةً، وَإِنْ كَانَتْ دُونَهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْ مِنَ اللَّيْلِ مِقْدَارَ الْغُسْلِ وَزِيَادَةَ سَاعَةٍ لَطِيفَةٍ تَصُومُ وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ مَعَ فَرَاغِهَا مِنَ الْغُسْلِ لَا تَصُومُ"

اور اگر وہ عورت رات کو پاک ہوئی تو وہ کل کا روزہ رکھے گی اگر اس کے حیض کے ایام پورے دس دن تھے اور اس کے کم تھے کہ وہ پاک ہوگئی تو اگر وہ صبح صادق سے قبل نہانے اور اس کے بعد ایک ساعت کا وقت پاتی ہے تو بھی وہ روزہ رکھے گی۔

(الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصوم، الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الإفطار، ج 1 ص 207) اور بہار شریعت میں ہے۔ اور حیض سے پورے دس دن رات میں پاک ہوئی تو بہر حال کل کا روزہ رکھے اور کم میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کو اتنا عرصہ ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے گا تو بھی روزہ رکھے اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح چمکی تو روزہ نہیں۔

(بہار شریعت ج 1 ص 1004)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date:17-05-2019

Does a woman need to fast if her period finishes during the day in Ramadān?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: If the menses of a woman was to finish at Zuhr time during Ramadān, then does she need to keep the fast of that particular day?

Questioner: A sister from Sheffield, England

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بعون الملِك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

Such a female cannot keep the fast of that day, because in order to keep the fast of that particular day, it is essential that some time remains that night after having done Ghusl before the start of Fajr (i.e. pre-dawn) - provided that her menstruation period finished in less than 10 days. However, if her menstrual cycle lasts for 10 complete days (i.e. including nights), and finishes before the start time of Fajr, then she is to fast - even if there was no time to do Ghusl.

Just as it is stated in Fatāwā Hindiyyah,

وَلَوْ طَهَّرَتْ لَيْلًا صَامَتْ الْعَدَاةَ إِنْ كَانَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا عَشْرَةً، وَإِنْ كَانَتْ دُونَهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْ مِنَ اللَّيْلِ مِقْدَارَ الْغُسْلِ
وَزِيَادَةَ سَاعَةٍ لَطِيفَةٍ تَصُومُ وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ مَعَ فَرَاغِهَا مِنَ الْغُسْلِ لَا تَصُومُ

“If a female become pure (from menses) at night, then she will keep the fast of the following day, on the condition that her menstrual cycle lasted for 10 complete days. If it is less than this and she becomes pure, thereby if there is a moment of time remaining after she has done Ghusl before the break of dawn, then she is still to fast.”

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, pg 207]

Furthermore, it is stated in Bahār-e-Sharīʿat that if a woman becomes pure from menses within the full ten days and nights, then in all such cases she will keep the fast of the next day. And if she became pure within fewer days, then if there is sufficient time until the start of dawn in which she can do Ghusl and after that only a limited amount of time will remain, then she too must keep the fast for that day. However, if the break of dawn appears after she completes her Ghusl, then there is no fast (upon her for that day).

[Bahār-e-Sharīʿat, vol 1, part 5, pg 1004]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali